



سوال

(771) اللہ کو گالیاں دینے والے شوہر سے طلاق طلب کرنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں ایسی عورت ہوں کہ میرا شوہر نماز کا تارک ہے، دین اسلام بلکہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتا ہے اور مجھے مارنے پر آئے تو بہت سخت مارتا ہے۔ میرا اس سے ایک بیٹا بھی ہے۔ علاوہ اس کے یہ پشاپ کر کے استنجاء بھی نہیں کرتا ہے۔ اس کی بے تحاشا مار کے سبب مجھے ہسپتال بھی جانا پڑا ہے، بلکہ مجھے ہمیشہ کے لیے معذور بنا دیا ہے۔ اس صورت میں میں کیا کروں میری رہنمائی فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اس خاتون کے لیے حلال نہیں ہے کہ ایسے شوہر کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یا دین اسلام کو گالی دے ایسا شخص باجماع مسلمین کافر ہے۔ اپنے اس کفر پر اس نے ایک اور کفر کا اضافہ کر لیا ہے۔ اگرچہ کفر سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور وی ہے نماز نہ پڑھنا۔ اس پر مزید یہ کہ وہ اپنی بیوی کا کفران (ناقدری) کرتا ہے۔ مرد کے لیے جائز نہیں کہ بلاوجہ شرعی اپنی بیوی کو مارے۔ عذر شرعی یہ ہے کہ بیوی سرکشی اور بے پروائی اختیار کرے یا بدکاری کرے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اللہ عزوجل کفران ہے:

وَالَّتِي تَحَاوِنُ نَفْسُهَا فَيُضْرِبُهَا وَابْجُرُوبُهَا فِي الْمَضَاجِ وَأَضْرِبُهَا... ۳۴ ... سورة النساء

”اور جن عورتوں کے متعلق تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ سر پر چڑھتی ہیں تو (پٹلے) انہیں نصیحت کرو اور (اگر نہ سمجھیں تو) بستروں سے الگ کر، اور (اس پر بھی وہ نہ مانیں تو) انہیں سزا دو۔“

(گھریلو زندگی کے امور میں) علماء کہتے ہیں کہ اگر نرمی سے بیوی کی اصلاح ہو سکتی ہو تو شوہر کو جائز نہیں ہے کہ بیوی کو سزا دے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے:

(وان الرفق ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه) (صحیح مسلم، کتاب البر والصلة والاداب، باب فضل الرفق، حدیث: 2594 وسنن ابی داود، کتاب الجہاد، باب ما جاء في الهجرة وسكنى البدو، حدیث: 2478 -)

”نرمی اور نرم خوئی جس چیز میں بھی پائی جائے اسے زینت ہی دیتی ہے، اور جس چیز سے اس کو نکال لیا جائے اسے داغدار بنا دیتی ہے۔“

حضرت جریر بن عبد اللہ بخلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو شخص نرمی اور نرم خوئی سے محروم کیا گیا ہو وہ ہر طرح کی خیر سے محروم ہوا۔“ (صحیح مسلم، کتاب البر والصلۃ والاداب، باب فضل الرفق، حدیث: 2592۔)

آپ علیہ السلام نے بیویوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے سوائے اس کے کہ کسی واضح فحش کی مرتکب ہوں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اس ”فحش“ کی وضاحت ”شوہر پر سرکشی اور نافرمانی“ سے کی ہے۔ اگر ان سے یہ عمل صادر ہو تو مارا جاسکتا ہے مگر شرط ہے کہ ”شدید نہ ہو۔“ اگر یہ تمہاری اطاعت اپنائیں تو ان کے خلاف کسی طرح کے بہانے مت ڈھونڈو۔ الغرض اس عورت پر واجب ہے کہ اس شوہر سے علیحدہ ہو جائے، اس کے لیے حرام ہے کہ اپنے ساتھ کوئی موقع دے کیونکہ یہ کافر اور مرتد ہے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

احکام و مسائل، خواتین کا انسائیکلو پیڈیا

صفحہ نمبر 552

محدث فتویٰ